

SiōngChú tī Pòkhong tiong ê Siaⁿ

(Tabit ê si.)

- 1 Tōa koānlêng ê ê chêng kiáⁿ jī ah,
lín tiòh kā êngkng kah koānlêng kui hō
SiōngChú,
tiòh kui hō SiōngChú!
- 2 Tiòh kā SiōngChú ê miâ engkai tit tiòh ê
êngkng kui hō l,
tiòh tī sèngkiat ê êngkng tiong kèngpài
SiōngChú.
- 3 SiōngChú ê siaⁿ tī chúibīn teh hiáng;
êngkng ê SiōngChú tōa siaⁿ khí lûi,
SiōngChú tânlûi tī tōa chúí ê téngbīn.
- 4 SiōngChú ê siaⁿ ū tōa lênglêk,
SiōngChú ê siaⁿ chhiong móa uigiâm.
- 5 SiōngChú ê siaⁿ phahtng pekhiuⁿ chhiū;
SiōngChú pahchhùi Lebanòng ê pekhiuⁿ
chhiū.
- 6 l hō Lebanòng tiòthiàu chhinchhiūⁿ gū'á,
hō Seliân soaⁿ tiòthiàu chhinchhiūⁿ iá gū'á.
- 7 SiōngChú ê siaⁿ hoatchhut sihnà.
- 8 SiōngChú ê siaⁿ títāng khòngiá;
SiōngChú títāng Katési ê khòngiá.
- 9 SiōngChú ê siaⁿ hō lókbú tiòhkiaⁿ làuthe,
mā hō chhiūnâ tiong ê chhiūhiòh lak kah
kngkng.
Kiànnā tī tiānlāi ê lāng lóng hoah kóng:

上主 tī 暴風中 ê 聲

(大衛 ê 詩。)

- 1 大權能 ê ê 眾 kiáⁿ 兒 ah ,
lín tiòh kā 榮光 kah 權能歸 hō 上主 ,
tiòh 歸 hō 上主 !
- 2 Tiòh kā 上主 ê 名應該得 tiòh ê 榮光歸 hō 衞 ,
tiòh tī 聖潔 ê 榮光中敬拜上主 。
- 3 上主 ê 聲 tī 水面 teh 響 ;
榮光 ê 上主大聲起雷 ,
上主 tân 雷 tī 大水 ê 頂面 。
- 4 上主 ê 聲有大能力 ,
上主 ê 聲充滿威嚴 。
- 5 上主 ê 聲 pah 斷柏香樹 ;
上主 pah 碎黎巴嫩 ê 柏香樹 。
- 6 衞 hō 黎巴嫩 tiò 跳親像牛 á ,
hō Seliân 山 tiò 跳親像野牛 á 。
- 7 上主 ê 聲發出 sihnà 。
- 8 上主 ê 聲振動曠野 ;
上主振動加低斯 ê 曠野 。
- 9 上主 ê 聲 hō 鹿母 tiòh 驚落胎 ,
mā hō 樹林中 ê 樹葉 lak kah 光光 。
- 見若 tī 殿內 ê 人 lóng hoah 講 :

Goān êngkng kui tī SiōngChú!

10 Tōa chúí hoànlām ê sî, SiōngChú chēūi chò Ông;

SiōngChú chēūi chò Ông, títkàu éngoán.

11 SiōngChú beh siúⁿsù khùilát hō̍ l ê chúbîn;

SiōngChú mā beh ēng pêngan sù hok hō̍ l ê chúbîn.

願榮光歸 tī 上主！

10 大水氾濫 ê 時，上主坐位做王；

上主坐位做王，直到永遠。

11 上主 beh 賞賜氣力 hō̍ 裨 ê 子民；

上主 mā beh 用平安賜福 hō̍ 裨 ê 子民。